



## نبی ﷺ پاس ایک بچہ لایا گیا اس نے آپ ﷺ کو کپڑے پر پیشاب کر دیا اس پر آپ ﷺ نے پانی منگوا یا اور اسے (پیشاب کی جگہ) پر بہا دیا

ام قیس بنت محسن اسدی رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو رسول اللہ ﷺ کو پاس لے کر آئیں، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا آپ ﷺ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اس نے آپ ﷺ کو کپڑوں پر پیشاب کر دیا اس پر آپ ﷺ نے پانی منگوا یا اور اسے اپنے کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کو پاس ایک بچہ لایا گیا اس نے آپ ﷺ کو کپڑے پر پیشاب کر دیا اس پر آپ ﷺ نے پانی منگوا یا اور اسے (پیشاب کی جگہ) پر بہا دیا ایک اور روایت میں ہے: ”آپ ﷺ نے جہاں جہاں اس کا پیشاب لگا تھا، وہاں وہاں پانی ڈال دیا اور کپڑے کو دھویا نہیں“

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی ﷺ کو پاس اپنے بچے لے کر آتے تھے، تا کہ انہیں آپ ﷺ کی ذات اور آپ ﷺ کی دعا کی برکت حاصل ہو سکے اپنے لطف و کرم اور اعلیٰ اخلاق کی بنا پر آپ ﷺ ان کے ساتھ خند روئی اور نرم خوئی کے ساتھ پیش آتے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی فطرت میں رکھی تھی چنانچہ ام قیس رضی اللہ عنہا اپنا دودھ پینا بچے لے کر آئیں، جس کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دودھ کے علاوہ کوئی اور شے بطور غذا استعمال کر سکتا ازراہ شفقت آپ ﷺ نے اسے اپنی گود مبارک میں بٹھا لیا بچے نے آپ ﷺ کو کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ ﷺ نے پانی منگوا کر کپڑے کے پیشاب کی جگہ پر چھڑک دیا اور اسے پوری طرح سے نہیں دھویا یہ حکم (پیشاب کی جگہ چھینٹ مارنا کافی ہے) شیر خوار بچے کو لینے خاص ہے جبکہ شیر خوار بچے کا حکم اس کے برخلاف ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3529>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

